



## سوال

(489) فلم دیکھنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بانی سکوپ کا دیکھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

نوٹ بانی سکوپ ایک تماشے کا نام ہے جس میں شہر جنگل عمارتیں اور جاندار وغیرہ چیزیں نظر آتی ہیں،

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر کوئی غرض محمود ہو تو جائز ہے ورنہ ہر قسم کے کھیل تماشے (باستثنائیں قسموں کے جو حدیث مذکور ذیل میں مذکور ہیں) ناجائز ہیں۔

عن عقبہ بن عامر قال سمعت رسول اللہ یقول: کل شیء یلہو بہ الرجل باطل الا رمیہ بقوسہ وتنادیہ فرسہ وملاہمتہ امراتہ فانس من الحق [1] (رواہ الترمذی وابن ماجہ والیو داؤد والدارمی مشکوٰۃ المصابیح)

(عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "ہر وہ چیز جس سے انسان کھیلتا ہے اور اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے وہ باطل (بے کار) البتہ اس کا کمان کے ساتھ تیر اندازی کرنا لپٹے گھوڑے کی تربیت کرنا اور اس کا اپنی اہلیہ کے ساتھ مشغول ہونا کیونکہ یہ حق ہیں)

سنن ابی داؤد، رقم الحدیث (۲۵۱۳) سنن الترمذی، رقم الحدیث (۱۶۳۷) سنن النسائی، رقم الحدیث (۳۵۷۸) سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۲۸۱۱) سنن الدارمی (۲/۲۶۹)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## مجموعہ فتاویٰ عبداللہ غازی پوری

کتاب الحظر والاباحۃ، صفحہ: 731



## محدث فتویٰ